



برامپٹن میں بالمشافہ اور ورچوئل سمر کیمپس کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 7 جون سے ہو رہا ہے

برامپٹن، آن (4 جون 2021) – اس موسم گرما کے دوران برامپٹن ریکریٹیشن کی جانب سے بالمشافہ اور ورچوئل سمر کیمپس کی پیشکش 5 جولائی تا 3 ستمبر تک کی جائے گی۔ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے، رجسٹریشن کا آغاز بروز پیر مورخہ 7 جون کو صبح 6 بجے سے ہو رہا ہے۔

بالمشافہ سمر کیمپس

سٹی آف برامپٹن کے نو ریکریٹیشن سنٹرز بچوں اور نوجوانوں کے لیے بالمشافہ سمر کیمپس کا انعقاد کریں گے۔ ان کیمپوں میں گیمز، اسپورٹس، دستکاریوں اور مزید کئی اقسام کی سرگرمیاں، پیر سے جمعہ تک صبح 8:45 سے شام 5:15 بجے تک اور 2 اگست کا ایک مختصر ہفتہ شامل ہیں۔

گورنمنٹ آف اونٹاریو کی جانب سے اس مرتبہ بالمشافہ سمر کیمپس کی اجازت دی گئی ہے۔ سٹی آف برامپٹن، پبلک ہیلتھ کی رہنمائی کے ساتھ شرکاء اور عملے کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک توسیع شدہ پروٹوکول کا نفاذ کر رہا ہے۔ اندرونی مقامات پر شرکاء کے لیے فیس ماسک کا ہر وقت پہننا لازمی ہو گا جبکہ ایسے بیرونی مقامات پر بھی فیس ماسک کا پہننا لازمی ہو گا جہاں پر جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھنا ممکن نہ ہو سکتا ہو۔ کیمپس کے شرکاء کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعامل نہ کر سکیں۔ صفائی کے توسیع شدہ طریقہ ہائے کار، روزانہ کی بنیاد پر اسکریننگ اور دیگر حفاظتی اقدامات پر بھی سختی سے عمل کیا جائے گا۔

[بالمشافہ سمر کیمپ کے حوالے سے صحت و تحفظ کے اقدامات کے بارے میں مکمل تفصیل کے لیے یہاں کلک کریں۔](#)

فیسوں مختلف ہیں۔ 311 پر کال کریں یا رجسٹر کرنے کے لیے www.brampton.ca/reccamps ملاحظہ کریں۔

ورچوئل سمر کیمپس

مسلسل دوسری بار بھی، برامپٹن کے بچے اور نوجوان ورچوئل سمر کیمپس کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ ان کیمپس کا انعقاد پیر تا جمعہ روزانہ 1.5 گھنٹے کے لیے ہو گا جبکہ پروگرام کے لحاظ سے آغاز کا وقت مختلف ہو سکتا ہے۔ تمام پروگراموں کو برامپٹن ریکریٹیشن کے تربیت یافتہ انسٹرکٹرز بذریعہ ویب ایکس (WebEx) پیش کریں گے۔

ہفتہ وار ورچوئل کیمپ میں شرکت کی فیس \$75 ہے، جس میں مواد کی کٹ کے \$25 بھی شامل ہوں گے۔ ورچوئل کیمپس، مواد کی ایک کٹ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے اور کیمپ کے آغاز سے پہلے یہ کٹ وصول کرنا لازمی ہو گی۔ مواد وصول کرنے کے مقامات اور اوقات کے بارے میں تفصیلات کے لیے شرکاء کو ایک ہدایاتی ای میل بھی بھیجی جائے گی۔

ورچوئل کیمپ میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ بروز جمعہ، کیمپ کے آغاز سے پہلے تک ہے۔ 311 پر کال کریں یا رجسٹر کرنے کے لیے www.brampton.ca/reccamps ملاحظہ کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca



BRAMPTON

Service and Information Update

